

Secondary Arabic (235)

یونٹ: 3 سبق نمبر 27: الحمامة والثعلب والكركي

سبق کا نام	سبق نمبر	زبان کی مہارتیں	زندگی کے عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں
الحمامة و الثعلب و الكركي	27	سننا/بولنا پڑھنا لکھنا اصناف/قواعد/صنائع بدائع/اسلوب	زندگی کے عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں
نئے الفاظ کا گفتگو میں استعمال		نثر (مضمون)	ہمت اور بہادری سے کسی بھی پریشانی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
		متن کی تفہیم کے بعد سوالات کے جوابات	ہمت اور بہادری سے کسی بھی پریشانی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔
		مضمون ان اخواتہا اور اس کے قاعدے	ہمت اور بہادری سے کسی بھی پریشانی پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

سبق کا خلاصہ:

إن حمامة كانت تبنى عشاً في نافذة منزل قديم و كل مرة كانت تخرج الأفراخ من البيضات كان يأتي إليه الثعلب فيخاف الحمامة على نفسها فتلقى أفراخها إليه ليأكلها. ويكرّر ذلك كل مرة تبيض الحمامة وفي أحد الأيام كانت الحمامة ينتظر قدوم الثعلب فمربها الكركي فقالت الحمامة له أن الثعلب يأتي إليه ويطلب منه أفراخها فقال لها الكركي أن تقول هذه المرة للثعلب أن يصعد إليه ويأكل الأفراخ لأنه كان يعرف أن الثعلب لا يستطيع أن يصعد إلى عش الحمامة. فلما جاء الثعلب وطلب منها الفراخ فقال ما قاله الكركي - فذهب الثعلب إلى الكركي وقفز عليه وقال له : علمت الحمامة كيف تحمي صغارها مني و نسيت حماية نفسك ثم أكله.

نئے الفاظ:

حمامة	كبوتری	تبيض	وہ انڈا دیتی ہے
ثعلب	لومڑی	كركى	سارس
عش	گھونسلہ	أفراخ و فراخ	چوزہ (واحد فراخ)
ينصرف	واپس جاتا ہے	إصعد	چڑھ جاؤ
شاطئ	ندی/ سمندر کا کنارہ	جناح	پنکھ

خاص باتیں:

- دوسروں کو مشورہ دینے سے پہلے اپنی حفاظت کے اقدامات کرنے چاہئیں۔
- دوسروں کو مکر سے بچنے کے لیے ذہن کا استعمال کرنا چاہیے۔
- بے وقوفی میں آدمی اکثر مصیبت میں پڑجاتا ہے۔
- حروف مشبہ بالفعل چھے ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ کے اوپر آتے ہیں۔ متداً اسم بن جاتا ہے جب کہ خبر خبر ہی رہتی ہے۔ مبتداً مرفوع سے منصوب ہوجاتا ہے اور خبر اپنی اصل حالت پر رہتی ہے۔

سمجھنے کی بات:

- انسان بسا اوقات دوسروں کو صحیح مشورہ دیتا ہے لیکن خود اپنے بارے میں ان مشوروں پر عمل نہیں کرتا۔

غور کرنے کی باتیں:

- لومڑی مکاری اور عیاری کے لیے مشہور ہے۔
- کبوتری، سارس اور لومڑی کی کہانی کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی تدابیر کریں اس کے بعد دوسروں کی مدد کریں۔
- حروف مشبہ بالفعل کا اس سبق میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھیں اور ویسے ہی جملے بنانے کی کوشش کریں۔

اپنی جانچ آپ کیجیے:

1. متن پر مبنی سوال:
 - صحیح جملوں پر (✓) کا نشان لگائیں۔
 - (الف) إن حمامة كانت بيني عشًا
 - (ب) جاء الثعلب إلى حمامة كعادته
 - (ج) ونجت أفرخ من مكر الثعلب
 - (د) غطت الكركي رأسها بجناحها
2. مختصر ترین جواب والا سوال:
 - إلى أي حيوان كانت الحمامة ترمي فراخها؟
3. مختصر جواب والا سوال:
 - لماذا كانت الحمامة حزينة؟
4. طویل جواب والا سوال:
 - ماذا قال الكركي للحمامة ولماذا؟